



میرا نام ضمام بن ثعلب اور قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ایک مرتبہ ہم مسجد میں نبی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ سوار آیا اور اپنے اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا پھر پوچھنے لگا: تم میں محمد (ﷺ) کون ہیں؟ نبی اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان تکیہ لگائے بیٹھے تھے ہم نے کہا: یہ سفید رنگ والا تکیہ لگائے بیٹھے شخص چنانچہ وہ آپ سے کہنے لگا: اے فرزند عبدالمطلب! نبی نے فرمایا: ”(پوچھ) میں تجھے جواب دیتا ہوں“ اس نے نبی سے کہا: میں آپ سے کچھ دریافت کرنے والا ہوں اور اس میں سختی کروں گا، آپ دل میں مجھ پر ناراض نہ ہوں آپ نے فرمایا: ”(کوئی بات نہیں) جو چاہے پوچھ!“ اس نے پوچھا: میں آپ کو آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں: کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں، اللہ گواہ ہے“ پھر اس نے پوچھا: میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں، اللہ شاہد ہے“ پھر اس نے کہا: میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں، اللہ گواہ ہے“ پھر کہنے لگا: میں آپ کو قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے امیروں سے صدقہ لے کر ہمارے غریبوں پر تقسیم کریں؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں، اللہ گواہ ہے“ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا: میں اس (شریعت) پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر حاضر خدمت ہوا ہوں میرا نام ضمام بن ثعلب ہے اور قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں

[صحیح] [متفق علیہ]

انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: دریں اثنا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر داخل ہوا اور اونٹ کو بٹھا کر باندھ دیا پھر صحابہ کرام سے دریافت کیا: تم میں محمد کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تکیہ لگائے بیٹھے تھے ہم نے کہا: یہ سفید رنگ والا شخص جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں آپ سے اس شخص نے عرض کیا: اے عبدالمطلب کے فرزند! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا: میں نے تمہاری بات سن لی سوال کرو میں جواب دوں گا اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: میں آپ سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں اور سوال کرنے میں سخت لہجہ اختیار کروں گا اس لیے آپ دل میں مجھ سے ناراض نہ ہوں یعنی آپ مجھ پر غصہ نہ کریں اور نہ میرے سوال سے تنگ ہوں آپ نے عرض کیا: جو چاہے پوچھو اس نے کہا: میں آپ کو آپ کے رب اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے؟ آپ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا: ”ہاں، اللہ گواہ ہے“ پھر اس نے پوچھا: میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ یعنی فرض نمازیں آپ نے فرمایا: ”ہاں، اللہ شاہد ہے“ پھر اس نے کہا: میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں، اللہ گواہ ہے“ پھر کہنے لگا: میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے امیروں سے صدقہ لے کر ہمارے فقیروں پر تقسیم کریں؟ یعنی زکاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاں، اللہ گواہ ہے“ ضمام نے بالآخر اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیں گے پھر اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ضمام بن ثعلب ہیں اور قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتے ہیں



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

